

بین الاقوامی تحفظ کے لئے درخواست دہندگان

خلاصہ سیکشن

بینک آف آئرلینڈ میں، ہم اپنے تمام صارفین کی مالی آسودگی کو بہتر بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مالی آسودگی کے مرکز میں، مالی شمولیت ہے اور اس کا مطلب سب کے لئے بنیادی بینکاری مصنوعات تک رسائی ہے۔ ہم بین الاقوامی تحفظ کے لئے درخواست دہندگان کی حمایت کرتے ہیں بینکاری مصنوعات تک رسائی فراہم کر کے اور ترجمانانہ خدمات کی ضرورت کو پہچان کر اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ انہیں مالی خدمات حاصل ہوجاتی ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔

ہمارے پاس روزمرہ بینکاری کی ضروریات کے لئے دو مصنوعات ہیں جو بین الاقوامی تحفظ کے لئے درخواست دہندگان کے لئے موزوں ہوسکتی ہیں؛ ایک ذاتی کرنٹ اکاؤنٹ اور ایک بنیادی بینک اکاؤنٹ، جو دونوں ہی آپ کو اپنے پیسوں کو رکھنے اور ان تک رسائی کے لئے ایک محفوظ جگہ کی پیش کش کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور ان اکاؤنٹس کو کھولنے کے لئے درکار دستاویزات کی فہرست فراہم کی گئی ہے۔

جب آپ کے پاس مطلوبہ دستاویزات تیار ہوجائیں تو آپ کسی بھی بینک آف آئرلینڈ برانچ میں آسکتے ہیں اور ہم آپ کا نیا اکاؤنٹ ترتیب دینے کے لئے عمل شروع کرسکتے ہیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ صارفین کے پاس انگریزی زبان کی مہارت نہیں ہوگی یا وہ یہ محسوس کرسکتے ہیں کہ برانچ وزٹ کے دوران سوالات کے جوابات دینے کے لئے ان کی انگریزی کی مہارت کافی نہیں ہے۔ اگر یہ کیس آپ کے لئے ہے تو، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک دوست، ساتھی یا مترجم لائیں جو آپ کی ترجمانی کرسکے۔

اس کے علاوہ، بینک آف آئرلینڈ کے متعدد ملازمین متعدد زبانیں بولتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ترجمانی کرنے والا کوئی فرد نہ ہو تو ہم مدد کرنے میں خوش ہوں گے۔ برانچ میں بس اپنے ویلکم اٹوائزر سے پوچھیں۔

آپ ہماری برانچز کی تفصیلات یہاں دیکھ سکتے ہیں <https://www.bankofireland.com/branch-locator/>